


## آپریکا کے ذریعہ جمع ہونے کے بعد بریشیا میں موجود مختلف فضلہ کا کیا ہوتا ہے؟



اس منصوبے میں جو کے فاؤنڈیشن کارپلو کی مالی اعانت کے ذریعے پیش کیا گیا ہے اور جس میں درج ذیل تنظیمات بھی شامل ہیں ، غیر منافع بخش تحقیقی مرکز ایسٹا ، آپریکا ، ایسویشن آدل اور ڈاؤیدوچی ، میلان یونیورسٹی اور نوامونٹ ( وہ کمپنی جو شرکاء کے لیے مفت کمپوسٹ ایبل فوڈ بیگ مہیا کرتی ہے۔) بریشیا کی بلدیہ کی سرپرستی کے ساتھ ، ہم آپ سے اس شہر کی بھلائی کے لیے تعاون کا کہتے ہیں۔ آپ کا تعاون بے حد ضروری ہو گا۔

## فضلے کو صحیح طریقے سے الگ کرنا کیوں ضروری ہے؟

بریشیا میں کوڑا کرکٹ کا مواد بڑی حد تک اکٹھا کیا جاتا ہے (ریسائیکل اور توانائی کی بچت کے ذریعے)۔

- 85% جمع شدہ شیشے کا حصہ شیشے کی فیکٹریوں کو جاتا ہے
- 80% جمع شدہ پلاسٹک ریکور پلانٹ میں جاتا ہے
- 96% جمع شدہ کاغذ اور گتہ کاغذ کی فیکٹریوں کے لیے ہے
- 94% اکٹھا کیا گیا نامیاتی مواد دوسرے مواد میں تبدیل کیا جاتا ہے

2019 سے بریشیا میں برآمد شدہ فضلے کے ساتھ ، درج ذیل مواد پیدا کیا جاسکتا ہے :

- پلاسٹک کے ساتھ ، 37,000 بیٹھنے والے بینچ یا ایک ملین سے زائد اونی سوئیٹر
- شیشے سے ، تقریباً 8,5 ملین بوتلیں۔
- کاغذ سے ، 88 ملین سے زیادہ گتے کے ڈبے۔
- ایلومینیم سے 281,500، کافی بنانے والا موکا ۔
- نامیاتی فضلے سے 2,300 ٹن قدرتی کھاد

## ایک ثقافت کی بوری

اسلام ؛ منصوبہ ایک ثقافت کی بوری کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لئے کہ بیرگامو بریشیا اور میلانو کے ریستورینٹ کس طرح غیر ضروری فضلہ اکٹھا کرنے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ یورپی قانون کے ہدایت نامہ کے تحت قانون کا نفاذ ہو چکا ہے جس کا نام بے سنگل یوڈ پلاسٹک ، جو کہ ایک وقت کے لئے کھانے اور پینے کے لئے استعمال ہونے والی پلاسٹک سے بنی مصنوعات پر پابندی عائد کرتا ہے (مثال کے طور پر پلیٹیں ، چھری اور چمچ ، پینے کے لئے پاہپ ، خوراک اور مشروبات کے لئے ڈبے)

## پروجیکٹ میں حصہ لینا آسان ہے !

ہمیں وقت دیں تا کہ آپ سے ری سائیکلنگ (کچرے کا الگ الگ مجموعہ) اور ڈسپوز ایبل پلاسٹک کی مصنوعات کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ ہم آپ کے تمام شبہات کو واضح طور پر دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے ہم پوچھیں گے ، کہ آپ اپنے شہر کے دوسرے تاجروں کے لیے سہولیات کو آسان بنانے کے لیے ہماری مدد کریں۔

اس کے علاوہ ، پہلے انٹرویو کے بعد ہم آپ کو مفت کمپوسٹ ایبل فوڈ بیگ فراہم کریں گے تاکہ آپ پہلے سے استعمال شدہ چیزوں کو تبدیل کر سکیں۔

تجربات کی مدت کے بعد ، ہم یہ جاننے کے لیے واپس آئیں گے کہ یہ تجربہ کیسا رہا ، اور آپ کے تبصرے جمع کرنے کے لیے۔

تمام شرکاء اپنے شہر کے ماحول کو بہتر بنانے میں دکھائے گئے عزم کی تصدیق کے لیے ڈپلومہ حاصل کریں گے

## کچھ باتیں جو کہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے:

- آپ کون سی پلاسٹک کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں؟ موقع پر استعمال کے لیے یا جو آپ گھر پہنچاتے یا جو آپ گھر سے لے کر لے آتے ہیں؟
- کیا آپ جانتے ہیں؟ ری سائیکل مصنوعات کا متبادل جو کہ آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکیں۔
- کیا آپ یورپی سنگل یوز پلاسٹک ڈائریکٹیو کو جانتے ہیں ، جو کہ ان میں سے کچھ مصنوعات کے استعمال پر پابندی عائد کرتی ہے؟
- کیا آپ کو اپنے شہر میں کچرے کو الگ الگ جمع کرنے کے بارے میں مشکلات یا شبہات ہیں؟

## ایک دفعہ استعمال ہونے والے پلاسٹک مصنوعات کا

### استعمال کم کرنا کیوں ضروری ہے؟

• یورپی یونین کے ساحلوں پر پائے جانے والے 80 فیصد سے زیادہ کچرے پلاسٹک سے بنے ہیں ، اور ان میں سے آدھی اشیاء ڈسپوز ایبل پلاسٹک سے بنی ہیں۔

• اٹلی میں ہر سال 6 سے 7 ارب پلاسٹک کے کپ استعمال ہوتے ہیں ، اور یہ کپ 20 فیصد سمندری گندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

• ہر شخص ہر سال تقریباً 2 کلو ڈسپوز ایبل ایک دفعہ استعمال ہونے والے پلاسٹک سے بنے ہوئے برتن استعمال کرتا ہے ، جو کہ کم از کم 50 سال تک ماحول میں رہتا ہے۔

ڈسپوز ایبل پلاسٹک کی مصنوعات آسانی سے فضلہ بن جاتی ہیں اور اکثر ماحول میں منتشر ہو جاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے متبادل استعمال کو عمل میں لایا جائے لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے ، کمپوسٹ ایبل متبادل کے ساتھ ، جیسا کہ یورپی سنگل یوز پلاسٹک ڈائریکٹیو میں کہا گیا ہے ۔

## مزید معلومات کے لیے کی Aprica ویب سائٹ

ملاحظہ کریں۔ [www.apricaspa.it](http://www.apricaspa.it)

اس لنک کے ذریعے کچرے کا الگ الگ مجموعہ اکٹھا کرنے کا کیلنڈر لیا جا سکتا ہے

<https://servizi.zona.a2ambiente.eu/servizi-di-zona/public/?param=Brescia>

صفحہ پر «میں اسے کہاں پہنکوں؟» آپ کو اپنے شکوک و شبہات کے جواب ملیں گے کہ کس طرح فضلہ کو الگ کیا جائے۔

<https://www.apricaspa.it/cittadini/brescia/dove-lo-butto>

PULiamo ایپ ڈاؤن لوڈ کریں ، ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ تمام معلومات رکھیں جو آپ کو اپنے فضلے کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے!



منصوبے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے اور معلوماتی مواد ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ایک ثقافتی بوری کی سائٹ پر بھی جائیں جو کہ مختلف علاقائی زبانوں میں بھی ہے ۔

[www.unsaccoetnico.it](http://www.unsaccoetnico.it)



Economia e  
Sostenibilità

partner di progetto:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  
E DI STUDI INTERCULTURALI

con il contributo di:



NOVAMONT

con il patrocinio di:



# ایک ثقافتی بوری Un sacco et(n)ico

سنگل یوز پلاسٹک کو کم کریں اور الگ الگ کوڑا اور نامیاتی مواد کو اکٹھا کرنے کے عمل کو بہتر بنائیں خاص علاقائی ریسٹورنٹ میں۔

